

گرجا گھروں اور مساجد میں حاضری کے لیے ہدایات

ڈنمارک میں اناجیلی-لوتھران چرچ (Evangelical-Lutheran Church) اور دیگر کمیونٹیز اپنے گرجا گھروں، مساجد، پیرش ہالز اور دیگر مقامات کو 18 مئی، 2020 سے عوام کے لیے کھول سکتے ہیں۔

گرجا گھروں اور مساجد کو دوبارہ کھولنے کے بعد فی شخص 4 مربع میٹر کی جگہ کو یقینی بنایا جانا لازمی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ، مثلاً اگر گرجا گھر اور مسجد کا فرشی علاقہ 100 m² ہے تو، 25 سے زیادہ عبادت کرنے والوں اجازت نہیں دی جاسکتی، سوائے عملے کے۔

گرجا گھروں اور مساجد کے لیے نئی ہدایات پر کیسے عمل کریں:

- اچھی صحت و صفائی برقرار رکھیں۔
اندر آتے اور باہر جاتے وقت، سرگرمیوں کے درمیان اور کھانے سے قبل ہینڈ سینٹائزر استعمال کریں۔
- محفوظ فاصلہ رکھیں
بغیر گیت والے ایونٹس کے دوران عبادت کرنے والوں کی درمیانی جگہ کم از کم ایک میٹر ہے۔ گیت والے ایونٹس کے لیے، کم از کم دو میٹر ہے۔
یاد رکھیں کہ گھر سے باہر بھی کم از کم ایک میٹر کی دوری کا اطلاق ہوتا ہے۔
- طبعی اشیاء کا اشتراک کرنے سے بچیں
جیسے کہ مذہبی اشیاء۔ عبادت کے لیے اپنی جانماز یا چٹائی یا پیالے لانے کی سفارش کی جاتی ہے۔
- اپنا کھانا اور پانی لے کر آئیں
آپ کی مذہبی برادری کی روایات کے مطابق، آپ گرجا گھر یا مسجد میں اپنا کھانا یا مشروبات، سازوسامان اور گلاس لانے پر غور کر سکتے ہیں۔ پینے کے اجتماعی کپس، بیکرز یا پیالوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
- مناسب وقت پر پہنچیں
اپنے گرجا گھر یا مسجد میں مناسب وقت پر داخل ہوں اور وہاں سے الگ الگ، ہمہ وقت کم از کم فاصلہ رکھتے ہوئے نکلیں۔
- اگر آپ بیمار ہوں تو گھر پر ہی رہیں
اگر آپ متاثر ہو گئے ہیں یا آپ کو دیگر علامات کا سامنا ہے تو، آپ کو چرچ یا مسجد میں کسی مذہبی سرگرمی میں حصہ لینے سے پرہیز کرنا چاہیئے۔
- اہلکاروں کی بات سنیں
یاد رکھیں کہ ایسے خصوصی ہدایات ہو سکتے ہیں جن کا اطلاق مقامی طور پر ہوتا ہو۔
- اجتماع پر پابندی
سوائے تجہیز و تکفین یا تدفین کے گھر سے باہر کی سرگرمیوں پر بدستور 10 لوگوں تک کی پابندی رہے گی۔

آپ کی سمجھ اور مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔

Protect yourself and others



Wash your hands frequently or sanitize your hands with an alcohol-based hand rub



Cough or sneeze into your sleeve, not your hands



Limit physical contact – avoid handshakes, refuse kisses on the cheek and avoid hugging



Be diligent with cleaning – both at home and in your workplace



If you are older or have a chronic illness, avoid crowds of people and advise others: to be aware of your condition